

اس موسمِ سرما میں تندرست رہنا

ایک صحت مند رُت کے لیے آپ کی رہنمائی



دنوں کے سرد تر ہونے کے ساتھ، ایسے طریقوں کے متعلق سوچنا اہمیت کا حامل ہے جن سے آپ سردیوں کے مہینوں میں تندرست رہ سکتے ہیں۔

سرد موسم صحت کے کچھ مسائل کو مزید خراب کر سکتا ہے اور حتیٰ کہ سنگین پیچیدگیوں پر بھی منتج ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بیماریاں زیادہ آسانی سے پھیلتی ہیں کیونکہ ہم زیادہ وقت اندرونِ خانہ گزارتے ہیں۔


سردیوں میں گرم اور تندرست سے رہنے سے نزلہ، کوویڈ-19، فلو اور صحت کے مزید سنگین مسائل جیسے کہ دل کے دورے، فالج، نمونیا اور ڈپریشن سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔

یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اہم ہے جنہیں سرد موسم کے اثرات کی وجہ سے سردیوں کے مہینوں میں کچھ زیادہ مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، جیسے کہ 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ، یا جن کو صحت کا ایک متواتر عارضہ ہے جیسے کہ دل یا گردے کی بیماری، COPD، بھپھڑوں کا ورم، نفاخ (بافتوں میں ہوا بھرنا)، دمہ یا ذیابیطس۔

ہمیں معلوم ہے کہ زندگی کے اخراجات کا بحران لوگوں کے لیے صحت مند رہنا مشکل بنا رہا ہے کیونکہ حرارت، خوراک اور روزمرہ کی ضروریات جیسی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔

اچھی خبر یہ ہے کہ بہت سے ایسے طریقے ہیں جن سے آپ سردیوں میں تندرست رہ سکتے ہیں، اور ایسا کرنے میں آپ کی مدد کے لیے بہت ساری معاونت موجود ہے۔

اس کتابچے میں، آپ کو اس موسم سرما میں اپنی اور دوسروں کی دیکھ بھال کرنے کے متعلق معلومات اور مشورے ملیں گے، اور کچھ شعبوں کی تفصیلات بھی جو کہ آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں۔



موسم سرما میں تندرست رہنے کے لیے تجاویز

اپنی ادویات والی الماری دیکھ لیں



تسلی کر لیں کہ آپ کے پاس نسخے کی ادویات کافی مقدار میں ہیں۔ جلدی ذخیرہ کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی فارمیسی یا جی پی پریکٹس چھٹیوں کے لیے بند ہو جائے۔

تسلی کر لیں کہ آپ کی پاس موجود ادویات کی معیاد ابھی باقی رہتی ہے۔

سردیوں کے عام امراض جیسے کہ کھانسی، نزلہ، گلے کی خرابی اور وقتی تکلیف اور درد کے لیے ضروری نسخے کے بغیر فروخت ہونے والی ادویات ذخیرہ کر لیں۔ اپنے فارماسسٹ سے مشورہ طلب کریں۔

صحت مند رہیں



دن میں بیٹھ کر گزارنے والے وقت کو کم کرنے کی کوشش کریں اور فعال رہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، جب تک کہ یہ ایسی چیز ہے جس سے آپ لطف اندوز ہوں اور آپ متحرک رکھے۔

صحت مند متوازن غذا کھانا آپ کو بہترین محسوس کرنے اور توانائی کی سطح کو بلند رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔

پہسلن والی یا برفیلی سطحات پر پھسلنے اور گرنے سے بچنے کے لیے باہر جاتے وقت اچھی گرفت والے جوتے پہنیں۔

دوسروں سے منسلک رہیں



اپنے دوستوں، پڑوسیوں اور رشتے داروں سے رابطے میں رہیں۔

اگر آپ موسمی اثرات محسوس کر رہے ہیں تو کسی سے بات کر لیں، اور اگر آپ کو یا انہیں کسی مدد کی ضرورت ہے تو ڈرین مت۔

گرم رہیں



اپنے گھر کو اُس درجہ حرارت پر گرم کریں جو آپ کے لیے آرام دہ ہو۔ اگر آپ کر سکیں، تو یہ ان کمروں میں کم از کم 18 ڈگری سیلسیٹس ہونا چاہیے جنہیں آپ باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کا اٹھنے بیٹھنے کا کمرہ (لونگ روم) اور خوابگاہ۔

لباس کی ایک ہی موٹی تہہ کی بجائے کئی تہیں پہننے سے آپ زیادہ گرم رہیں گے۔

اگر آپ کو اپنے گھر کو گرم کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ Redbridge میں متعدد گرم مقامات پر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ان میں لائبریریاں اور فراغت کے مراکز شامل ہیں اور چند ایک گرم مشروبات اور وائی فائی پیش کرتے ہیں۔

www.towerhamlets.gov.uk/warmhubs

حفاظتی ٹیکے لگوائیں



سردیوں سے پہلے فلو اور کوویڈ-19 کے حفاظتی ٹیکے لگوانا دو اہم ترین کام ہیں جو آپ خود کو اور اپنے آس پاس دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر 65 سال یا اس سے زیادہ ہے، حاملہ ہیں یا صحت کی طویل المعیاد حالت میں ہیں تو آپ دونوں مفت لگوا سکتے ہیں۔

بچوں کو فلو سے بچاؤ کا ٹیکہ لگ سکتا ہے اگر ان کی عمر 2 سے 16 سال، یا صحت کے مخصوص حالات کے ساتھ 6 ماہ سے 17 سال ہو۔ یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ انہیں ان کی MMR ویکسین اور بچپن کے دیگر حفاظتی ٹیکے بھی مکمل لگے ہوئے ہوں۔

اگر آپ کی عمر 65 سال اور اس سے زیادہ ہے تو آپ نمونیا، جسم میں پیپ پڑنے اور گردن توڑ بخار سے بچنے کے لیے نیوموکوکل ویکسین حاصل کر سکتے ہیں۔

اگر آپ کی عمر 75 سے 79 سال ہے، آپ یکم ستمبر 2024 کو یا اس کے بعد 80 سال کے ہو گئے ہیں، یا آپ حاملہ ہیں، تو آپ RSV ویکسین کے لیے اہل ہوں گے۔ RSV سانس کا ایک عام وائرس ہے جو بچوں اور بوڑھوں کو شدید بیمار کر سکتا ہے۔

مشورہ اور مدد تلاش کریں

صحت و تندرستی



NHS 111

اگر آپ کو فوری طبی توجہ درکار ہے، مگر اس سے زندگی کو خطرہ نہیں ہے، تو NHS 111 پر آن لائن جائیں یا پہلے 111 پر کال کریں۔

اوقات کار کے علاوہ ڈاکٹر سے ملاقات

ڈاکٹر کے ساتھ فوری ملاقاتیں ہفتے کے ساتوں دن دستیاب ہیں، بشمول شاموں کو، اختتام ہفتہ پر اور بینک کی چھٹیوں میں۔ بُک کرنے کے لیے اپنی پریکٹس یا NHS 111 کو کال کریں۔

فارمیسی

آپ کا مقامی فارماسسٹ مشورے کے ساتھ ساتھ دوا بھی دے سکتا ہے۔ کئی فارمیسیاں دیر گئے تک اور اختتام ہفتہ پر کھلی ہوتی ہیں، اور آپ کو کسی پیشہ ور سے ملاقات کے لیے وقت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ گھر پہنچانے کی مفت خدمات پیش کرتی ہیں، لہذا اپنی مقامی فارمیسی سے پوچھ لیں۔

Tower Hamlets Talking Therapies

دماغی صحت کے بہت سی عام تشویشوں جیسے کہ بے چینی، تناؤ، ان دیکھی چیز کا خوف، سوگ اور افسردگی کے لیے مدد فراہم کرتی ہے۔

0208 175 1770

www.elft.nhs.uk/tower-hamletstalking-therapies

دماغی صحت کے بحران میں مدد

اگر آپ جذبات سے مغلوب محسوس کر رہے ہیں یا آپ کو اپنی دماغی صحت میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ دن میں 24 گھنٹے، سال کے 365 دن دماغی صحت کے بحران کی لائن کو مفت کال کر سکتے ہیں۔ NHS 111 پر کال کریں اور 2 کا بٹن دبائیں۔

Tower Hamlets, Newham and Mind میں Redbridge

کئی انواع کی خدمات کے ذریعے دماغی صحت میں مدد فراہم کر سکتی ہے جو پیر تا جمعہ، صبح 9 بجے تا شام 5 بجے دستیاب ہیں۔

020 7510 1081

www.mindthnr.org.uk/our-services



تنہائی اور دماغی خلل میں معاونت

Tower Hamlets میں امدادی خدمات

اگر آپ تنہائی محسوس کر رہے ہیں اور مقامی طور پر مشغول ہونا چاہتے ہیں یا صرف کوئی بات چیت کرنے والا چاہتے ہیں تو بہت سی تنظیمیں ہیں جو مدد کر سکتی ہیں۔

www.towerhamletsconnect.org/just-say-hello/

Age UK کے زیر انتظام The Silver Line

بزرگوں کے لیے ٹیلی فون پر ایک مفت امدادی لائن ہے جو دن میں 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن رازداری سے مدد اور دوستانہ گفتگو کی پیشکش کرتی ہے۔

0800 4 70 80 90

Age UK میں East London

بزرگوں کے لیے کئی انواع کی مدد اور مشورے کی خدمات، نیز دوستی کرنے کی خدمات، سرگرمیاں اور تقاریب بھی فراہم کرتی ہے۔

020 8981 7124

www.ageuk.org.uk/eastlondon



پیسے اور مشورہ



مالی مشورہ

روزمرہ کے اخراجات کے بحران میں آپ کی مدد کے لیے عام معلومات اور مشورہ یہاں مل سکتا ہے:

www.towerhamlets.gov.uk/costofliving

Citizens Advice

کئی انواع کے موضوعات پر مفت، آزاد، رازدارانہ اور غیر جانبدارانہ مشورہ فراہم کرتی ہے۔ ملاقات کا وقت ان کے East London میں دفتر سے دستیاب ہے۔

0203 855 5234

www.eastendcab.org.uk

دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے مدد

اگر آپ دیکھ بھال کرنے والے ہیں اور کچھ مدد چاہتے ہیں تو، Carers Centre Tower Hamlets مدد کر سکتے ہیں۔

0207 790 1765

enquiries@ccth.org.uk

www.ccth.org.uk



سردیوں کے حفاظتی ٹیکے و قطرے



لاکھوں لوگ اس موسم سرما میں فلو اور کووڈ-19 کی مفت ویکسین کے اہل ہوں گے، جن میں 65 سال اور اس سے زیادہ عمر کا ہر فرد، حاملہ خواتین، کیئر ہوم کے رہائشی، صحت کے مخصوص حالات والے افراد، اور صحت و نگہداشت کے شعبے کا پہلی صف میں کام کرنے والا عملہ شامل ہیں۔ صحت کی کچھ حالتوں والے، 2 سے 16 سال، یا 6 ماہ سے 17 سال کی عمر کے بچے، فلو کا ٹیکہ مفت لگوا سکتے ہیں۔

کون اہل ہے

کووڈ-19 کی ویکسین

65 برس اور اس سے زیادہ عمر کے تمام بالغ بزرگ بالغوں کے لیے کیئر ہوم میں مقیم رہائشی ایک کلینیکل رسک گروپ میں شامل 6 ماہ سے 64 سال عمر کے افراد بشمول حاملہ خواتین صحت اور سماجی نگہداشت کے اگلی صف میں کام کرنے والے اہلکار بزرگ بالغوں کے لیے کیئر ہوم میں کام کرنے والا عملہ

مزید جانیں:

www.nhs.uk/covid-vaccination

RSV ویکسین

75 سے 79 سال کی عمر کے بالغ وہ بالغ جو 1 ستمبر 2024 کو یا اس کے بعد 80 برس کے ہوئے ہیں خواتین اور وہ لوگ جو حاملہ (28 ہفتوں سے) ہیں

فلو کی ویکسین

65 برس اور اس سے زیادہ عمر کے تمام بالغ ایک کلینیکل رسک گروپ میں شامل 6 ماہ سے 64 سال کے تمام افراد حاملہ خواتین ایک کیئر ہوم میں رہنے والے افراد وہ لوگ جو دیکھ بھال کرنے والے کا الاؤنس وصول کرتے ہیں، یا وہ کسی بزرگ یا معذور شخص کی دیکھ بھال کرنے والے بنیادی فرد ہیں۔ وہ لوگ جو کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتے ہیں جس کا مدافعتی نظام کمزور ہو گیا ہو۔ صحت کی مخصوص حالتوں والے، 2 سے 16 سال، یا 6 ماہ سے 17 سال کی عمر کے بچے۔

مزید جانیں:

www.nhs.uk/flu vaccine

خاندانی خدمات



خاندانی مراکز

خاندان خدمات کے نیٹ ورک کے ذریعے مدد حاصل کر سکتے ہیں جس میں صحت، تعلیم اور رہائشی امداد شامل ہیں۔

www.thfamilyhubs.co.uk



روزمرہ زندگی کے اخراجات میں معاونت



عمومی مشورہ

روزمرہ کے اخراجات کے بحران میں آپ کی مدد کے لیے عام معلومات اور مشورہ یہاں مل سکتا ہے:

www.towerhamlets.gov.uk/costofliving

NHS کے اخراجات میں مدد

جبکہ NHS کی نگہداشت مفت ہے، چند چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے آپ کو ادائیگی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ نسخے اور دانتوں کے علاج کے اخراجات۔ ان اخراجات میں مدد کے لیے اہل لوگوں کو مالی امداد کی کئی اقسام دستیاب ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ مفت نسخے کے اہل نہیں ہیں، تب بھی ان پر پیسے بچانے کے طریقے موجود ہیں اور آپ اس بارے میں اپنے مقامی فارماسسٹ سے بات کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں:

www.northeastlondon.icb.nhs.uk/nhs-costs

توانائی کی بجٹ

آپ کو توانائی کے بلوں پر پیسے بچانے اور اپنے گھر کو موسم سرما کے لیے تیار کرنے میں مدد کے لیے آپ گرانٹوں، سکیموں اور مدد کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

www.towerhamlets.gov.uk/energy

فوڈ بینک

اگر آپ کو اپنے یا اپنے خاندان کے لیے کھانا حاصل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو Tower Hamlets میں غذائی امدادی تنظیمیں ہیں جو مدد کر سکتی ہیں۔ کونسل نے بورو میں کئی فوڈ سٹور اور فوڈ بینک قائم کیے ہیں جہاں سے آپ کھانے کا سامان لے سکتے ہیں۔

www.towerhamlets.gov.uk/foodbanks

اگر آپ اہل ہیں تو آپ فلُو کی ویکسین بُک کر سکتے ہیں:

اپنے ڈاکٹر کی سرجری کے ذریعے

اپنی مقامی فارمیسی کے ذریعے

NHS ایپ کے ذریعے

www.nhs.uk/bookflu

ریسیپشن سے لے کر 11 سال تک کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے سکول میں لگاؤ جائیں گے۔ 2 سے 3 سالہ بچے آپ کے جی پی سے لگوا سکتے ہیں۔

اگر آپ اہل ہیں تو آپ کووڈ-19 کی ویکسین بُک کر سکتے ہیں:

NHS ایپ کے ذریعے

www.nhs.uk/bookcovid

119

بہت سی مقامی فارمیسیاں بکنگ کی ضرورت کے بغیر راہ چلتے خدمات پیش کریں گی۔

RSV سانس کا ایک عام وائرس ہے جو بچوں اور بوڑھوں کو شدید بیمار کر سکتا ہے۔

اگر آپ حاملہ ہیں:

آپ کو RSV ویکسین لگوانے کی پیشکش آپ کے حمل کے 28 ویں ہفتے کی ملاقات میں کی جانی چاہیے۔ اگر آپ 28 ہفتوں یا اس سے زیادہ کی حاملہ ہیں اور آپ کو ویکسین لگوانے کی پیشکش نہیں کی گئی تو اپنے شعبہ زچگی یا جی پی سرجری سے بات کریں۔

اگر آپ کی عمر 75 سے 79 سال کے درمیان ہے:

آپ کی جی پی سرجری RSV ویکسین لگوانے کے متعلق آپ سے رابطہ کرے گی۔ یہ بذریعہ خط، فون کال یا ای میل ہو سکتا ہے۔

اگر آپ کی عمر 65 سال اور اس سے زیادہ ہے تو آپ کا جی پی نمونیا، جسم میں پیپ پڑنے اور گردن توڑ بخار سے بچنے کے لیے نیوموکوک ویکسین لگوانے کی بھی پیشکش کرے گا۔

اس ویب سائٹ پر جا کر مزید جانیں

northeastlondon.icb.nhs.uk/vaccinations



وہ لوگ جو آپ کے علاقے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں

آپ کے ڈاکٹر کی سرجری کی جانب سے مدد

آپ کئی طرح کے پیشہ ور افراد تک رسائی کر سکتے ہیں جو آپ کی جی پی سرجری کے ذریعے آپ کی دیکھ بھال میں مدد کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اپنی پریکٹس سے پوچھیں۔



کلینیکل فارماسسٹ ادویات کے ماہر ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی ادویات کا جائزہ لے سکتے ہیں، ادویات تجویز کر سکتے ہیں، اور طویل المعیاد کیفیات کو سنبھالنے میں مدد کر سکتے ہیں۔



فارمیسی ٹیکنیشن ادویات کے ریکارڈ کی تجدید کر کے کلینیکل فارماسسٹ کی مدد کرتے ہیں اور آپ اس بارے میں مشورے کی پیشکش کر سکتے ہیں کہ اپنی ادویات کو کیسے استعمال کرنا ہے اور ان سے زیادہ سے زیادہ مستفید کیسے ہونا ہے۔



فریڈیشن معاونین صحت کی مختلف کیفیات کی تشخیص اور علاج کر سکتے ہیں۔ وہ جی پی اور وسیع تر ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دیکھ بھال فراہم کی جا سکے، ٹیسٹوں کا بندوبست کیا جا سکے اور نتائج کا تجزیہ کیا جا سکے۔



بہلے رابطہ کرنے کے لیے فزیوتھراپسٹ مدد کے لیے موجود ہیں اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جو آپ کے ہاتھوں یا جوڑوں کو متاثر کرتی ہے۔ وہ معائنہ، تشخیص کر سکتے ہیں اور آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ کی کیفیت کو کیسے سنبھالا جائے۔



ماہرین علاج پاء ایسی بیماریوں کی تشخیص اور علاج میں مدد کے لیے موجود ہیں جو آپ کے پیروں اور نچلے دھڑ کے اعضاء کو متاثر کرتے ہیں۔



دماغی صحت کے پریکٹیشنرز اضطراب اور مایوسی سے لے کر کھانے کی خرابی، دو انتہاؤں پر رہنے کے مرض اور نفسیاتی امراض تک دماغی صحت کی مختلف کیفیات میں مدد کے لیے مشورہ اور مدد فراہم کر سکتے ہیں۔



سماجی نسخہ ساز آپ کی صحت اور تندرستی کو بہتر بنانے میں ہاتھ بٹانے کے لیے مشورے اور مدد کے لیے آپ کو مقامی سرگرمیوں اور خدمات سے جوڑ سکتے ہیں۔



نگہداشت کے رابطہ کار آپ کی دیکھ بھال کے انتظام میں مدد کر سکتے ہیں اور صحت اور نگہداشت کے نظام کو استعمال کرنے میں، آپ کو صحیح وقت پر صحیح خدمات یا پیشہ ور افراد سے منسلک کرنے میں اضافی مدد فراہم کر سکتے ہیں۔



ماہرین غذائیات غذا اور غذائیت سے متعلق مسائل کی تشخیص اور علاج کرنے کے ماہر ہیں اور ذیابیطس جیسی طویل المعیاد کیفیات، غذائی الرجیوں، پیٹ کے امراض، اور معدے کے مسائل میں مبتلا افراد کی مدد کر سکتے ہیں،



صحت و تندرستی کے کوچ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے۔



علاج بذریعہ مشاغل کے معالج ان چیزوں میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں جو آپ کو روزمرہ کی سرگرمیاں کرنے سے روک سکتی ہیں۔ اس میں آپ کے لیے چیزوں کو آسان بنانے کے لیے اپنے ماحول میں تبدیلیاں کرنا یا چیزوں کو کرنے کے نئے طریقے سیکھنا شامل ہو سکتا ہے۔

آپ کی جوابی رائے

ہم آپ کے خیالات جاننا چاہیں گے کہ آپ کو یہ کتابچہ کتنا مفید لگا۔
براہ کرم درج ذیل سروے کو مکمل کریں اور بذریعہ ڈاک
Winter Wellness, Freepost NHS North East London کو بھیج دیں۔

یا پھر، آپ
www.surveymonkey.com/r/FBLYYP6
پر جا کر سروے کو آن لائن بھی مکمل کر سکتے ہیں۔



1 براہ کرم ہمیں بتائیں کہ اس کتابچے میں دی گئی معلومات آپ کو کتنی مفید لگیں:

5 انتہائی مفید	4 بہت مفید	3 کسی حد تک مفید	2 بہت زیادہ مفید نہیں	1 انتہائی غیر مفید	
					سردیوں میں تندرستی کا مشورہ (صفحہ 3)
					مشورہ اور مدد تلاش کرنا (صفحات 4-6)
					سردیوں کے حفاظتی ٹیکے و قطرے (صفحہ 7-8)
					وہ لوگ جو آپ کے علاقے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں (صفحہ 9-10)

اگلے صفحے پر جاری

آپ کے علاقے میں معاونت

کئی طرح کے لوگ ہیں جو آپ کے علاقے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، بشمول:

✓ **علاقائی واقف کار صحت و تندرستی،**
خاندان، مالی امور، روزگار، فراغت اور سماجی
سرگرمی نیز رہائش کو دیکھتے ہوئے درست
خدمات تک رسائی میں مدد کرتے ہیں۔
@navigators@towerhamlets.gov.uk

✓ **Tower Hamlets Connect** ایک
آزاد، صحت مند اور اطمینان بخش زندگی
گزارنے میں بالغوں کی مدد کرتا ہے۔ مفت،
آزادانہ، شرطیہ معیاری معلومات، صحت کے
متعلق مشورہ اور وکالت، مسائل کے حل کے
لیے سماجی نگہداشت اور سماجی بہبود فراہم
کرتے ہوئے، Tower Hamlets Connect کا مقصد کسی بھی ضروریات یا مسائل کو
بدترین ہونے سے روکنا یا ٹالنا ہے۔

0300 303 6070

towerhamletsconnect.org

مزید معلومات

Translations and alternative formats

This booklet is available to download in a range of community languages from our website. Visit www.northeastlondon.icb.nhs.uk/winter

Tłumaczenia i alternatywne formaty

Tę broszurę można pobrać z naszej strony internetowej w różnych językach. Odwiedź: www.northeastlondon.icb.nhs.uk/winter

Traduceri și alte formate

Această broșură este disponibilă pentru descărcare de pe site-ul nostru într-o varietate de limbi ale comunității. Accesați www.northeastlondon.icb.nhs.uk/winter

تراجم اور متبادل فارمیٹ

یہ کتابچہ ہماری ویب سائٹ سے مختلف کمیونٹی زبانوں میں ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ وزٹ کریں:
www.northeastlondon.icb.nhs.uk/winter

অনুবাদ ও বিকল্প ফরম্যাট

এই বুকলেট ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে কমিউনিটির বেশ কয়েকটি ভাষায়
পাওয়া যায়। www.northeastlondon.icb.nhs.uk/winter ঠিকানায় ভিজিট করুন

ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਵਕਲਿਪਕ ਫੋਰਮੈਟ

ਇਹ ਕਿਤਾਬچہ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
www.northeastlondon.icb.nhs.uk/winter ਤੇ ਜਾਓ

ترجمے کے دوچے فارمیٹ

ایہ کتابچہ کئی کمیونٹی زبانوں میں ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ وزٹ کریں:
www.northeastlondon.icb.nhs.uk/winter



2 اگر آپ کو اس کتابچے میں کوئی بھی معلومات غیر مفید لگتی ہے، تو براہ کرم وضاحت کریں کہ یہ آپ کے لیے غیر مفید کیوں تھی:

2

3 کیا کوئی اضافی معلومات ہے جو آپ کو مفید لگے گی جسے آپ اس کتابچے میں شامل کروانا چاہیں گے اور کیوں؟

3

4 آپ کے خیال میں اس کتابچے کے متعلق کوئی ایسی چیز ہے جسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور کیوں؟

4